

KAOLIN	کیولین	ICSC: 1144
CAS # 1332-58-7 RTECS # GF1670500 UN # EC # EINECS# UN Hazard class:	دیگر نام : Hydrated aluminium silicate China clay Argilla فارمولہ : $H_2Al_2Si_2O_8 H_2O$ سامانی وزن: (approx) 258	
ابتدائی بھی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
آگ کے قرب و بوار میں پھیلنے کی صورت میں تمام بھجنے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔		غیر آش گیر مادہ
		دھاکہ:
	گرد کو پھیلنے سے بچائیں	جسم میں داغلہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	باریک گرد اور پھوار میں سانس نہ لیں لوک ایگریاست یا آلات تنفس استعمال کریں	سانس کے راستے:
پانی بھائیں پھر بلکہ کوپانی اور صابن سے دھوئیں	حفاظتی دستائے استعمال کریں	جلد کے راستے:
پہلے کبھی منٹ تک پانی سے اپنی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	حفاظتی چیزے استعمال کریں	آنکھوں میں پڑنا:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بھرنے کی صورت میں اقدامات:	نکلنے کی صورت میں:
	گرے ہوئے مادے کو برتوں میں اکھنا کریں ضرورت ہو تو پہلے گیلا کر لیں تاکہ گرد نہ اٹھے (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ذات سے بچنے کے لئے PI فلٹر والے ماسک کی ضرورت)	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

KAOLIN	کیولین	ICSC: 1144
اہم معلومات		
<p>جم میں داغہ کے راستے: یہ مادہ جنم میں اس کے ذرات کے سانس میں جانے سے چذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داغہ کے اثرات: 20 سنٹی گریڈ پر تیزیرائے نام ہوتی ہے لیکن - بھیڑنے پر یا سپرے نے پر خصوصاً پاؤڈر حالت میں ہوا میں ذرات کی مقدار تیزی سے تکلیف دہ کوچھ سختی ہے۔ طویل مدت کے لیے جنم میں داغہ کے اثرات: یہ مادہ پھیپھیڑوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو سانس کی پیاری (kaolinosis) fibrosis پر تیز ہو سکتا ہے طویل عرصے یا بار بار اثر انداز ہونے سے پھیپھیڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے</p>	<p>طبعی حالت: سفید پاؤڈر</p> <p>طبعی خواص:</p> <p>کیمیائی نظرات:</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: TLV . ہوا میں مقررہ حد: پی پی ایم: mg/m³ (اے سی جی آئی ایچ-1999)</p>	
طبعی خواص		
	<p>کثافت اضافی (بالمقابل پانی=1): 2.6</p> <p>پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لتر): بالکل نہیں</p>	
ماخولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
<p>یہ کارڈ 1 فیصد قلمی سلیکا ڈائل کے لیے موزوں ہے ماحول میں مقدار کے مطابق وظفوں پر طبی معاملہ کیا جائے [Fitrol, Glomax, Kaophills-2]</p> <p>تجارتی نام میں اس کے علاوہ ICSC [0808] سے رجوع کریں</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999